

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



قائداعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا پہلا روز مکمل

لاہور، 20 ستمبر 2019ء:

قائداعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا۔ 20 ستمبر بروز جمعہ سے شروع ہونے والا راؤنڈ 22 ستمبر بروز اتوار تک جاری رہے گا۔

سدرن پنجاب اور بلوچستان کے درمیان ڈرننگ اسٹیڈیم بہالپور میں جاری میچ کے پہلے روز میزبان ٹیم 218 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دن کے اختتام تک بلوچستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 18 رنز بنائے۔ اس سے قبل میزبان ٹیم کے کپتان نوید یاسین نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو دونوں اوپنرز 30 کے مجموعی اسکور پر پولین واپس لوٹ گئے۔ کپتان نوید یاسین نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا وہ 33 رنز اسکور کر سکے تاہم سدرن پنجاب کی جانب سے محمد محسن 46 رنز بنا کر نمایاں بیٹسمین رہے پوری ٹیم 78.2 اوورز میں 218 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بلوچستان کی جانب سے جلات خان اور اختر شاہ نے 3، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 219 رنز کے تعاقب میں بلوچستان نے اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو دن کے اختتام تک 9 اوورز میں اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ کریز پر موجود شہزاد ترین اور محمد جنید 18 کے مجموعی اسکور سے کھیل کے دوسرے روز کا آغاز کریں گے۔

نیشنل بنک اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ کے پہلے روز خیبرپختونخوا کی پوری ٹیم 230 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ سندھ کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو کر پولین واپس پہنچ چکے ہیں۔ دن کے آغاز میں خیبرپختونخوا کے کپتان خشدل شاہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو پوری ٹیم 230 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خیبرپختونخوا کے وکٹ کیپر بیٹسمین سلمان آفریدی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کے پہلے روز نصف سنچری اسکور کرنے والے واحد بیٹسمین ہیں۔ انہوں نے 155 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 6 چوکوں کی مدد سے 53 رنز اسکور کیے۔ آصف

آفریدی نے 38 اور اسد آفریدی نے 37 رنز بنائے۔ سندھ کی جانب سے عاشق علی ، حسن خان اور عدیل ملک نے 3،3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دن کے اختتام تک سندھ کرکٹ ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 11 رنز بنائے۔ جاہد علی اور عاشق علی سندھ کی جانب سے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین ہیں۔

میر پور آزاد جموں و کشمیر میں سنٹرل پنجاب اور ناردرن کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ بارش سے متاثر ہو گیا۔ موسم کے باعث تاخیر سے شروع ہونے والے میچ میں دن بھر صرف 34 اوورز کا ہی کھیل ممکن ہو سکا۔ ناردرن کرکٹ ٹیم نے 86 رنز بنالیے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ 26 کے مجموعی اسکور پر ناردرن کرکٹ ٹیم کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے حسن رضا اور فیضان ریاض نے کچھ دیر ٹیم کو سنبھالا دیا تاہم 22 کے انفرادی اسکور پر حسن رضا ریٹائر ہو کر میدان سے باہر چلے گئے۔ دن کے اختتام پر ناردرن کرکٹ ٹیم کی جانب سے فیضان ریاض 30 اور شعیب احمد 8 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk